



Prince William County

PUBLIC SCHOOLS

عالمی سطح کے طلباء ہائی سکول کے بعد کی زندگی کیلئے تیار ہیں

ورجینیا گریجویٹ کا پروفائل [خاکہ]

ہر طالب علم/طالبہ K تا 12 سال کے تجربے کے دوران ورجینیا میں درج ذیل کام کرتا ہے:

مناسب تعلیمی اور تکنیکی
علم حاصل اور لاگو کرتے ہیں

مواد سے آگاہی

عملی زندگی کی فائدہ مند مہارتوں،
خصوصیات اور کردار کو حاصل کرتے اور
ان کا مظاہرہ کرتے ہیں

ذریعہ معاش کیلئے منصوبہ بندی

کام کی جگہوں کی مہارتیں سیکھنا

علم، مہارتوں اور ذاتی دلچسپیوں کو
کیریئر کے مواقعوں کے برابر لاتے ہیں

تعلقات بناتے اور متنوع کمیونٹیوں کے
ساتھ رابطے کی قدر کرتے ہیں

کمیونٹی اور شہری ذمہ داری

ذریعہ معاش کی تلاش اور منصوبہ بندی

ورجینیا گریجویٹ کے پروفائل کے ذریعہ معاش کی
منصوبہ بندی کے حصے طلباء کو موقع فراہم کرتے ہیں
کہ وہ ملازمت کے انتخابات اور ذریعہ معاش کے ان
راستوں کے بارے میں جانیں جنہیں انہوں نے پہلے
ایلمنٹری اور مڈل سکول میں جانا تھا۔ ڈپلومہ حاصل
کرنے کیلئے SOL ٹیسٹوں کی تعداد کم کر کے، نئے
سٹیٹنڈرڈ، سکولوں کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ طلباء
کیلئے کام کی بنیاد پر اور کام سیکھنے کے پروگراموں
کو بڑھا کر کالج، ذریعہ معاش، اور بطور شہری ہونے
کی تیاری کو بڑھا سکتے ہیں۔

پانچ C [سے شروع ہونے والی خصوصیات]

طلباء کو ورجینیا گریجویٹ کے پروفائل پر پورا اترنے
کے قابل ہونے کی تیاری کے دوران، سکولوں سے
تفصیل کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کی تسلی کریں کہ
طلباء میں درج ذیل صلاحیتیں موجود ہوں
صلاحیتیں جنہیں "پانچ C" کے نام سے جانا گیا ہے:

- ناقدانہ سوچ
- تخلیقی سوچ
- رابطہ
- اشتراک
- شہریت

گریجویشن کی شرائط

2018-19 کے تعلیمی سال میں 9ویں گریڈ اور اس کے بعد آنے والوں کیلئے

سٹینڈرڈ ڈپلومہ		
مضمون	کریڈٹ کے درکار معیاری پونٹ	تصدیق شدہ درکار
انگریزی	4	2
ریاضی	3	1
سائنس	3	1
تاریخ/سوشل سائنس	3	1
صحت اور جسمانی تعلیم	2	
عالمی زبان، فنون لطیفہ، یا کیریئر و ٹیکنیکل ایجوکیشن	2	
معاشیات اور ذاتی مالیات	1	
اختیاری	4	
کل	22	5**

ایڈوانسڈ سٹڈیز ڈپلومہ		
مضمون	کریڈٹ کے درکار معیاری پونٹ	تصدیق شدہ درکار
انگریزی	4	2
ریاضی	4	1
سائنس	4	1
تاریخ/سوشل سائنس	4	1
عالمی زبان	3	
صحت اور جسمانی تعلیم	2	
فنون لطیفہ، یا کیریئر و ٹیکنیکل ایجوکیشن	1	
معاشیات اور ذاتی مالیات	1	
اختیاری	3	
کل	26	5**

اپلائڈ سٹڈیز ڈپلومہ - طلباء کو لازمی ان مقاصد پر پورا اترنا ہے جو انفرادی تعلیمی پروگرام میں بیان کیے گئے ہیں

- گریجویشن کے اضافی تقاضے:
- ایک ایڈوانسڈ کورس یا CTE کا ایک سند کورس میں داخلہ لیں اور اس کا امتحان پاس کریں
- ایک ورچوئل کورس لیں اور اسے پاس کریں
- ابتدائی طبی امداد/CRP/AED کی تربیت حاصل کریں

** وفاقی اور گریجویشن کے تقاضوں کو پورا کرنے کیلئے، طلباء کیلئے ضروری ہے کہ وہ جب ہائی سکول کے ان مخصوص کورسوں میں داخلہ لیں، انہیں سال کے اختتام پر SOL ٹیسٹ لینا ہو گا۔ جب ایک طالب علم/طلباء ان دونوں تقاضوں کو پورا کر لے گا/گی، اسے ورجینیا کے کسی پبلک ہائی سکول میں داخلے کے دوران مزید SOL ٹیسٹ لینے کی ضرورت نہیں ہو گی۔

پرنس ولیم کاؤنٹی کے طلباء اور والدین کیلئے وسائل

Naviance طالب علم/طالبہ

یہ پروگرام ہائی سکول کے طلباء کو مفت فراہم کیا جاتا ہے۔ آپ کا سکول کونسلر 9ویں گریڈ کے شروع میں رجسٹریشن اور لاگ ان معلومات فراہم کریں گے اور آپ اس تک رسائی اپنے ہائی سکول کے پوم پیج سے کر سکتے ہیں۔ والدین اور طلباء کالجوں، ذریعہ معاش، وظیفوں اور بہت سی چیزوں کے بارے میں تحقیق کر سکتے ہیں! آپ اپنے کمپیوٹر یا موبائل سے پرنس ولیم کے کسی بھی ہائی سکول کیلئے Naviance طالب علم/طالبہ تک رسائی ویب سائٹ <https://bit.ly/2MVEuty> کے ذریعے کر سکتے ہیں۔

ورجینیا Wizard

پورے ورجینیا میں پوسٹ-سیکنڈری تعلیم کے مواقع کے بارے میں معلومات دستیاب ہیں۔ والدین اور طلباء کو لازمی ملاحظہ کرنا چاہیے! ورجینیا Wizard تک رسائی کسی بھی انٹرنیٹ والے کمپیوٹر یا موبائل سے ویب سائٹ www.vawizard.org سے ممکن ہے۔

سٹوڈنٹس سروسز کا دفتر

والدین اور طلباء کو ہائی سکول کے دوران ان کے تعلیمی، پیشہ وارانہ اور سماجی/جذباتی تجربات کے دوران مدد کرنے کیلئے آن لائن وسائل فراہم کرتا ہے۔ اپنے کمپیوٹر یا موبائل سے سٹوڈنٹ سروسز کے دفتر کے ویب پیج تک www.pwcs.edu/departments/STUDENT_SERVICES کے ذریعے رسائی حاصل کریں۔